

کے میان کے مطابق جو ترجمے مجمع الملک فہد کو ارسال کئے گئے ہیں ان کی مکمل تحقیق ہو چکی ہے، انہوں نے مزید کہا کہ رابطہ قرآن کریم کے تراجم کی طباعت اور تقسیم کا کام جاری رکھے گا تا آنکہ اس کے پیش نظر جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔
(المدینۃ الرباضیۃ ۱۲ محرم ۱۴۰۶ھ)

تفہیم القرآن کا سنہالی زبان میں ترجمہ

کولمبو۔ دو سال قبل سری لنکا میں پہلی بار قرآن مجید کا ترجمہ سنہالی زبان میں شائع کیا گیا تھا۔ اب یہاں کی جماعت اسلامی مولانا مودودیؒ کے تفہیم القرآن کا ترجمہ سنہالی زبان میں کر رہی ہے۔ سری لنکا جماعت اسلامی کے امیر جناب مولوی ابراہیم نے بتایا کہ سورۃ البقرہ پر مشتمل تفہیم القرآن کی پہلی جلد کا سنہالی ترجمہ اسی سال چند ماہ کے اندر شائع ہو کر شائقین کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا۔ ترجمہ کے کام کے لئے ایک کمیٹی ۱۹۸۳ء میں تشکیل دی گئی تھی۔ اسی کمیٹی کی نگرانی میں ترجمہ کا کام ہو رہا ہے اس کمیٹی کے سربراہ جناب جیاسنیا ہیں جو سری لنکا حکومت میں آفیشیل لنگویج ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ رہ چکے ہیں۔
(دعوت، دہلی، ۴ مارچ ۱۹۸۳ء)

تراجم قرآن کی اشاعت

رابطہ عالم اسلامی (مکہ المکرمہ) کے شعبہ قرآنیات نے اپنے انگریزی ترجمان مسلم ورلڈ لیگ جنرل (MUSLIM WORLD LEAGUE JOURNAL) میں قرآن مجید کے مختلف تراجم شائع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اس کا مقصد جنرل کے قارئین کو مختلف تراجم قرآن سے روشناس کرانا ہے، سر دست مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر سے شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا ترجمہ سوزنا تہ شائع کیا ہے، اس سلسلے میں سربراہ شعبہ نے انگریزی جلد کے قارئین سے گزارش کی ہے کہ وہ اپنے مشوروں اور تجاویز سے مطلع کریں۔ (مسلم ورلڈ لیگ جنرل، جنوری، فروری ۱۹۸۸ء)

متحدہ عرب امارات میں قرآن مجید کے گراں قدر قلمی نسخوں کی نمائش

متحدہ عرب امارات میں قرآن مجید کے ایسے قلمی نسخوں کی ایک نمائش منعقد ہوئی جو تاریخ کے